

## 149359-خاوند مار مار کر لہو لہان کر دیتا ہے کیا اپنی حفاظت کے لیے پولیس سے مدد حاصل کر سکتی ہے

### سوال

میری ایک ایسے شخص سے شادی ہوئی ہے جب وہ غصہ میں ہو تو بہت سخت ہو جاتا ہے اور مجھے زد کوب کرتا ہے حتیٰ کہ مجھے زخم آجاتے ہیں اور خون نکلنے لگتا ہے تو کیا اس حالت میں اپنی حفاظت کے لیے میں پولیس سے مدد طلب کر سکتی ہوں؟

### پسندیدہ جواب

#### اول:

خاوند پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آئے۔

کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اور تم ان کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آؤ، اور اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر پیدا کر دے﴾ النساء (19).

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا کرو“

صحیح بخاری حدیث نمبر (3331) صحیح مسلم حدیث نمبر (1468).

اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں“

سنن ترمذی حدیث نمبر (3895) سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (1977) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

خاوند کے لیے بیوی کو مار مار کر لہو لہان کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ اسے اتنی اذیت و تکلف سے دوچار کرے، کیونکہ یہ ظلم اور زیادتی ہے اور اس سے خاوند کھنکار ہوگا اس لیے کہ اصل میں مسلمان کی عزت اور مال اور خون جسم و جان یہ سب کو حرمت حاصل ہے، لہذا اسے اسی صورت میں اور اسی وقت مارا جاسکتا ہے جس میں شریعت نے اجازت دی ہو اور وہ بھی ہلکی سی، اور پھر اس وقت کہ جب خدشہ ہو کہ بیوی اطاعت سے باہر جا رہی ہو اور اسے وعظ و نصیحت کرنے اور اسی طرح اسے بستر میں علیحدہ چھوڑنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر ہلکی سے مارا جاسکتی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا:

”کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ دن کونسا ہے؟“

صحابہ کرام نے عرض کیا: اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔

چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کیا یہ یوم النحر نہیں ہے“ (یعنی دس ذوالحجہ) ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں اسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یہ کونسا شہر ہے؟“

کیا یہ بلد حرام نہیں؟

ہم نے عرض کیا:

اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یقیناً تمہارے خون اور تمہارے مال، اور تمہاری عزتیں اور تمہاری جلدیں تم پر حرام ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح تمہارے اس دن کی تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں اس دن کی حرمت ہے، خبردار کیا میں نے پہچا دیا؟

ہم نے عرض کیا: جی ہاں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے اللہ گواہ رہنا“

ایشیاد: یہ بشرۃ کی جمع ہے جس کے معانی انسانی جلد اور ہنڈے کا ظاہر ہے۔

دوم:

اگر مذکورہ طریقہ سے ہی خاوند اپنی بیوی کو زدکوب کرتا رہے تو بیوی کے لیے اپنے آپ سے ضرور نقصان دور کرنے کے لیے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرنا جائز ہو جاتا ہے، اور اسی طرح خاوند کے ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے اسے پولیس میں رپورٹ کرنا بھی جائز ہو جائیگا، تاکہ وہ اس سے آئندہ بیوی کو زدکوب نہ کرنے کا عہد لے سکیں، اور اگر اس نے دوبارہ ایسا کیا تو وہ اسے قید کر دیں گے جیسا اسٹام بھی لکھوا سکتے ہیں۔

لیکن جس ملک میں آپ رہتی ہیں اس ملک کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے خاوند کو ایسی سزا بھی دی جائے جو حلال نہیں ہے، مثلاً خاوند کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے کی سزا، یا پھر گھر کے قریب بھی نہ جانے دینا یا گھر کا فیصلہ بیوی کے حق میں کر دیا جائے، یا پھر کچھ مدت کے لیے خاوند کو قید کر دینا جو اس کے جرم کی سزا سے زائد ہو۔

اس لیے ہم آپ کو یہ مشورہ نہیں دیتے کہ آپ ابتدا میں ہی پولیس میں رپورٹ کریں، بلکہ آپ پہلے اپنا معاملہ اسلامک سنٹر یعنی لندن کے اسلامک سینٹر میں لے جائیں ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلامک سینٹر والوں کے ہاتھوں آپ دونوں کی صلح کرادے۔

اور آپ کا ان سے رابطہ کرنے میں خیر و بھلائی اور استقرار کا باعث بنے، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو پولیس میں رپورٹ کرنے اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات کے سلسلہ میں کوئی اہم مشورہ دیں سکیں اور نصیحت کریں۔

اور اگر خاوند کی حالت تبدیل نہیں ہوتی اور آپ اس سے طلاق لینے کی رغبت بھی نہیں رکھتی تو پھر پولیس رپورٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں خاوند پر کوئی ظالمانہ سزا نہیں ہونی چاہیے۔

اور اگر فرض کریں کہ آپ کے حق میں کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جائے جو آپ کے لیے جائز نہیں مثلاً خاوند کو گھر میں داخل ہونے سے منع کر دیا جائے، تو پھر آپ کے لیے اس حکم پر عمل کرنا جائز نہیں۔

کیونکہ حاکم کا حکم اگرچہ وہ مسلمان بھی ہو کسی حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی حلال چیز کو حرام کر سکتا ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ آپ کے خاوند کو ہدایت نصیب کرے، اور اس کی حالت کی اصلاح فرمائے اور آپ دونوں کے معاملہ میں بہتری فرمائے۔

واللہ اعلم۔